

JUZ 16 Part 1

PRACTICE WORDS SURAH AL KAHF 75-82

پھر چلے دونوں	فَا+نُطَلِقَ+ا	فَانُطَلِقَا
آپ ساتھ رکھیں مجھے	تُصَاحِبْ+نِي	تُصَاحِبْنِي
مانگا کھانا دونوں نے	اسْتَطْعَمَ+ا	اسْتَطْعَمَا
تو انکار کر دیا	ف+أَب+وَا	فَأَبَوْا
مہمان نوازی سے ان دونوں کی	يُضَيِّفُ+و+هُمَا	يُضَيِّفُوهُمَا
ایک دیوار	جِدَارًا	جِدَارًا
گرنے ہی والی تھی	يَنْقُضُ	يَنْقُضُ
کشتی	ال+سَفِينَةَ	السَّفِينَةَ
زبردستی	عَصَبًا	عَصَبًا
غالب آجائے ان دونوں پر	يُزْهِقُ+هُمَا	يُزْهِقُهُمَا
خزانہ ان دونوں کا	كَنْزٌ لَّ+هُمَا	كَنْزٌ لَهُمَا

PRACTICE WORDS SURAH AL KAHF 83-99

سیاہ کچھڑ	حَمِيَّةٌ	حَمِيَّةٌ
دو دیواروں / پہاڑوں کے	ال+سَدَّيْنِ	السَّدَّيْنِ
پس تم مدد کرو میری	ف+أَعِينِ+و+نِي	فَأَعِينُونِي
مضبوط دیوار	رَدْمًا	رَدْمًا
تختے	رُبْرٌ	رُبْرٌ
لوہے کے	ال+حَدِيدِ	الْحَدِيدِ

دو نوں سروں / اکٹاروں	ال+صَدَقَيْنِ	الصَّدَقَيْنِ
میں ڈال دوں / انٹیل دوں	أَفْرَعُ	أَفْرَعُ
گھلتا ہوا تانا	قَطْرًا	قَطْرًا
نقب / شکاف	نُقْبًا	نُقْبًا
ہموار	دَكَاةً	دَكَاةً
وہ گھس جائیں گے	يَمْوجُجُ	يَمْوجُجُ

PRACTICE WORDS SURAH AL KAHF 100-110

مکان بدلنا	جَوَلًا	جَوَلًا
روشنائی // مدد کے لیے	مِدَادًا//مَدَدًا	مِدَادًا//مَدَدًا
تو ختم ہو جائے	لَنْ+نَفِدَ	لَنْفِدَ
امید رکھے	يَرْجُو	يَرْجُو

PRACTICE WORDS SURAH MARYAM 1-34

کمزور ہو گئی	وَهَنَ	وَهَنَ
شعلہ مارنے لگا	اشْتَعَلَ	اشْتَعَلَ
سر	ال+رَأْسُ	الرَّأْسُ
محروم	شَقِيًّا	شَقِيًّا
اپنے رشتہ دار	ال+مَوَالِي	المَوَالِي
پسندیدہ / خوش ہونے یا خوش کرنے والا	رَضِيًّا	رَضِيًّا
ہم نام / ہم صفت	سَمِيًّا	سَمِيًّا
انتہا کو / حد سے باہر	عَتِيًّا	عَتِيًّا

بہت آسان ہے	هَيِّنٌ	هَيِّنٌ
بچپن / بچہ	صَبِيًّا	صَبِيًّا
شفقت	حَنَانًا	حَنَانًا
نیک سلوک کرنے والا	بِرًّا	بِرًّا
وہ الگ ہو کر گئی / تنہا	انْتَبَذَتْ	انْتَبَذَتْ
دور	قَصِيًّا	قَصِيًّا
دردزہ	الْمَخَاضُ	الْمَخَاضُ
جڑ	جَذَعٌ	جَذَعٌ
بھولی بری	نَسِيًّا مَنَسِيًّا	نَسِيًّا مَنَسِيًّا
ایک چشمہ	سَرِيًّا	سَرِيًّا
ہلاؤ تم	هَزِي	هَزِي
گریں گی	تُسَاقِطُ	تُسَاقِطُ
پکی کھجوریں	رُطْبًا	رُطْبًا
تازہ / پکی ہوئی	جَنِيًّا	جَنِيًّا
عجیب / بہت بری	فَرِيًّا	فَرِيًّا
گود	الْمَهْدُ	الْمَهْدُ
وصیت کی ہے مجھے	أَوْصَانِي	أَوْصَانِي
PRACTICE WORDS SURAH MARYAM 35-65		
کیا پھرنے والا ہے تو	أَرَاغِبُ	أَرَاغِبُ
البتہ ستلسار کر دوں گا میں ضرور تجھے	لَأَرْجُمَنَّكَ	لَأَرْجُمَنَّكَ

لمبی مدت تک	مَلِيًّا	مَلِيًّا
چھوڑتا ہوں میں تمہیں	أَعْتَرُلُكُمْ	أَعْتَرُلُكُمْ
سرگوشی کے لیے	نَجِيًّا	نَجِيًّا
آنے والا ہے	مَأْتِيًّا	مَأْتِيًّا
ہم نام / ہم صفت	سَمِيًّا	سَمِيًّا
PRACTICE WORDS SURAH MARYAM 66-98		
گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے	جَنِيًّا	جَنِيًّا
البتہ ہم کھینچ نکالیں گے ضرور	لَنَنْزِعَنَّ	لَنَنْزِعَنَّ
داخل ہونے کے	صَلِيًّا	صَلِيًّا
گزرنا ہو گا اس پر	وَارِدًا	وَارِدًا
نمود / دیکھنے کے اعتبار سے	وَرِنِيًّا	وَرِنِيًّا
پس ضرور ڈھیل دیتا ہے	فَلَيَمُدُّ	فَلَيَمُدُّ
کیا مطلع ہو گیا ہے / جھانک لیا	أَطَّلَعَ	أَطَّلَعَ
خوب ابھارتے ہیں ان کو / ابھارنا	تَوَزُّوهُمْ	تَوَزُّوهُمْ
ہم ہانک لے جائیں گے	نَسُوقُ	نَسُوقُ
پیا سے / جانوروں کی طرح ہانکنا	وَرَدًا	وَرَدًا
بری	إِدًّا	إِدًّا
پھٹ پڑیں	يَنْفَطِرْنَ	يَنْفَطِرْنَ
پارہ پارہ / چور چور ہو کر	هَدًّا	هَدًّا
بہت زیادہ محبت	وُدًّا	وُدًّا

جھگڑالو	لُڏا	لُڏا
جهنگ	رڳڙا	رڳڙا

www.ksars.org